

Surah Al-Hujurat-49

Si-i ko ngaran o Allah, a Masa-lingga-gao, a Makalimo-on.


1. Hai so Miyamaratiyaya! Di niyo pagonai so Allah go so Sogo Iyan; go kalukun niyo so Allah: Mata-an! A so Allah na Puphakanug, a Mata-o.

2. Hai so Miyamaratiyaya! Di niyo puphoron so manga sowara niyo sa makaombao ko sowara o Nabi, go di niyo puphamakatanogi Sukaniyan sa Katharo, lagid o kapuphamakatanogi o saba-ad rukano ko sabaad, ka o ba mailang so manga Amal iyo a sukanan na di niyo mai-inungka.

3. Mata-an! A so ibababa iran so manga sowara iran ko Hadapan o Rasulollah,-na siran man so tiyolabos o Allah so manga poso iran ko kapananggila: Adun a bagiyan nir-an a Ma-ap a go Balas a lubi a mala.

4. Mata-an! A so siran a Puthawagun Ka iran (Ya Muhammad) ko liyo o manga bilik, -na so kadakulan kirana di siran phamanabot.

5. Na o Mata-an! A siran na Miphantang siran taman sa kaliyo Wingka kirana, na Mata-an a khabaloi a mapiya a bagiyan nirana: Na



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْدِمُ مَا وَيَنْدِمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَنْقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتُكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا يَجْهَرُ رَوْهُدُهُ بِالْقَوْلِ
كَجْهَرٍ يَعْضُضُ كُمْ لِيَعْضُضَ أَنْ تَخْبَطَ
أَعْمَلُكُمْ وَأَتَمْلَأَنْشُرُونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا حَنَّ اللَّهُ فَلُوْهُمْ
لِلنَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادِونَكَ مِنْ وَرَاءَ الْحُجَّرَاتِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَابِرُوْا حَقَّ تَخْرُجٍ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

so Allah na Manapi, a Makalimoon.

6. Hai so Miyamaratiyaya! O adun a miyoma rukano o songklid a tothol, na a mada niyo, ka o ba niyo kapumaratai so pagtao sabap ko di kapakakakaip, na mabaloi kano ko pinggolaola niyo a khipakashusundit.

7. Na tangkuda niyo a Mata-an! A matatago rukano so Sogo o Allah: Amai ka onotangkano Niyan ko madakul ko pukhaolaola, na Mata-an a makandarasag kano; na ogaid na so Allah na piyakikababaya-an Niyan rukano so Paratiyaya, go pipharasan Niyan noto ko manga poso iyo, go piyakikagowad Iyan runkano so Kaongkir, go so kapanongklid, go so Kandarowaka: Siran man na siran so khipaka-o ontol:

8. Gagao a pho-on ko Allah, go Limo. Na so Allah na Mata-o, a Maongangun.

9. Na o adun a dowa ka sagorompung ko Miyamaratiyaya a pumbobono siran; na tanora niyo siran. Na amai ka phanalimbotan o isa sa dowa oto so pud iyan, na pakimbono kano ko phanalimbot taman sa di mundod ko Sogowan o Allah; na amai ka mundod, na tanora niyo siran ko ontol, go Paginontolan kano. Mata-an! A so Allah na pu-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَرَاسِقٌ مِّنْا
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصْبِحُوا أَوْفَوْ مَا بَعْهَدْلَتُمْ
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيٰكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيَطِعُكُمْ فِي
كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ
إِلَيْكُمْ أَلِيَّمَنْ وَرَزِّيَّنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ
إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعَصِيَانُ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ



فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حِكْمَةٌ

وَلِنَ طَلَبَنَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أَفَتَنَلُوا
فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْآخْرَىٰ فَقَاتِلُوهُ الَّتِي تَبَغَّىٰ حَتَّىٰ يَقْرَأَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآتَتْ فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ



khababaya-an Niyan so manga o ontol.

10. So Miyamaratiyaya na aya bo Magariyari: Na tanora niyo so manga Pagari niyo, go kalukun niyo so Allah, ka angkano Mipangalimo.

11. Hai so Miyamaratiyaya! Di phamagurugi o isa a pagtao so isa a pagtao: Ka masikun a mabaloi siran (a puphamagurugan) a tomo a di siran, go di (phamagurugi o) manga Babai so manga pud a Babai: Ka masikun a mabaloi siran a tomo a di siran: (A puphamagurug); go di niyo puphapa-awinga so (manga pud o) manga ginawa niyo, go di niyo puthatalowa-an so manga patogina a piyakagowagowad. Miyakaratarata a ngaran so kapanongklid ko oriyan o Paratiyaya. Na sa tao a di niyan thao-batun, na siran man na siran so manga darowaka.

12. Hai so Miyamaratiyaya! Pakawatani niyo so madakul a kanganib; ka Mata-an! A so saba-ad ko kapanganganib na dosa; go di kano puphanoriman, go di puphamagenta a o saba-ad rukano so saba-ad. Ba khabaya i o isa rukano a kakana niyan ko sapo o Pagari niyan a miyatai? Na ini kagowad iyo to! Na kalukun Niyo so Allah: Mata-an! a so Allah na puphanarima ko taobat, a Makalimo-on.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا فَأَصْبَلُهُوا بَيْنَ
أَخْوَيْكُمْ وَأَتَقْوَاهُمُ اللَّهُ لَعْنَكُمْ تَرْحُمُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ
عَسَى أَنْ يَكُونُوا أَخْيَارًا مِّنْهُمْ وَلَا إِنْسَانٌ مِّنْ
نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوهُنَّ
أَنفُسُكُمْ وَلَا تَنَازِلُوهُنَّ بِالْقَدْبِ بِشَّ
الْأَسْمَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ إِلَيْمَنْ وَمَنْ لَمْ
يَتُبْ فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَبَنَا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
إِنَّكُمْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا تَجْعَسُو
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهُ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مِنْ سَافَكَ هَمْسُوهُ وَأَتَقْوَاهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ

رَّحِيمٌ

13. Hai manga Manosiya! Mata-an! A Sukami na Inadun Ami sukano a pho-on sa Mama a go Babai, go biyaloi Ami sukano a mbaram-barang a Bangunsa, a go pithikalokusan, ka angkano makakhikilala i. Mata-an! A aya lubi a susula-an rukano si-i ko Allah na so lubi a masanggila rukano. Mata-an! A so Allah na Mata-o, a Kaip.

14. Pitharo o (manga Badawi a) manga Arab: A Miyaratiyaya kami. Tharowangka (Ya Muhammad): A da kano Paratiyaya, na ogaid na aya Tharowa niyo na somiyangkop kami, ka da pun solud so Paratiyaya ko manga poso iyo. Na amai ka onotan niyo so Allah a go so Sogo Iyan, na da-a korangun Niyan rukano ko manga Amal iyo a maitobo. Mata-an! A so Allah na Manapi, a Makalimo-on.

15. Aya bo a titho a Khipaparatiyaya na so Piyaratiyaya iran so Allah go so Sogo Iyan, oriyaniyan na da siran paganganangan, go ini Panagontaman niran so manga tamok iran go so manga ginawa iran ko lalan ko Allah: Siran man na siran so Mimamata-an.

16. Tharowangka: A ba niyo phakitokawi ko Allah so okit iyo, a so Allah na katawan Niyan so shisi-i ko manga Langit a go so shisi-i ko Lopa? Na so Allah si-i ko langowan taman na katawan Niyan.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَأَنْشَئْنَاكُمْ شَعُوبًا وَبَلَّغَ أَنَّا
وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَبَلَّغَ أَنَّا
أَكْرَمْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَصْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلَيْهِ الْحِلْةُ [١٧]

فَالَّتِي لَا يَعْرَفُهُ إِمَانًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَذِكْرِنَّهُمْ فَوْلَوْا أَسْلَمُوا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ
فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمْ يَطْبِعُوهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
لَا يَلْتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ [١٨]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِمَانُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ شُمُّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجَهُهُمْ
بِأَثْوَارِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [١٩]

قُلْ أَتُعَلَّمُونَ اللَّهُ يَدِينِكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ [٢٠]

17. Puphamagitongun niran a Limo iran Ruka (Ya Muhammad) a Kiyapagislam iran. Tharowangka: A di niyo puphamagitonga a Limo iyo Rakun a Kiyapagislam iyo. Kuna, ka so Allah na Iphananakawan Niyan rukano a Kiyatorowa Niyan rukano ko Paratiyaya, o su-kano na Mumamata-an kano.

18. Mata-an! A so Allah na katowan Niyan so Migagaib ko manga Langit a go so Lopa: Na so Allah na phagilain Niyan so gi-i niyo nggolaola-an.

Surah Qaf - 50

Si-i ko ngaran o Allah, a Masa-linggagao, a Makalimo-on.

1. Qaf. So Allah i Mata-o ko paka-a antapan Niyan non. Ibut ko Qur-an a Susula-an; (ka so Muhammad na Sogo o Allah).

2. Kuna, ka Miyamumusa siran sa kiyapaka-oma kirana Miyama-ka-iktiyar a pud kirana. Na Pitharo o Miyamangongkir: A giyaya na Shai a piyakamumusa!

3. Ino amai ka matai tano go mbaloi tano a botha, (khaoyag tano sharoman)? Giyoto na kapakandod a mawatan!

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىٰ
إِسْلَامِكُمْ كُلُّ الَّهُ يَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ
لِلْأَيْمَنِ إِنْ كُتُمْ صَدِيقِينَ ١٧

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

سُورَةُ قَافٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَ وَالْفَرْءَانَ الْمَجِيدَ ١

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مُّنْهَمُ فَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ٢

أَءَذَامَتْنَا وَكَانَ رَبُّهُ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٣